

36706- میت کے لیے قربانی کرنا جائز ہے؟

سوال

کیا میت کے لیے قربانی کرنا جائز ہے؟

پسندیدہ جواب

اصل کے اعتبار سے قربانی کی مشروعیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اور میت کی جانب سے قربانی کرنا جائز ہے اس کی دلیل بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل فرمان کا عรวม ہے جس میں میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے تو تین کے علاوہ اس کے سب اعمال مُنقطع ہو جاتے ہیں، صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے (صحیح مسلم، سنن ابو داود، سنن ترمذی، سنن نسائی، اور امام بخاری نے الادب المفرد میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔

اور میت کی جانب سے قربانی کرنا صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ قربانی کرنے سے قربانی کرنے والے اور میت وغیرہ کو نفع حاصل ہوتا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے۔